

قانون ساز کونسل انتخابات 2016 پر مختصر معلومات

پولنگ کی تاریخ اور گھنٹے

● 4 ستمبر 2016 (اتوار)

● 7:30 a.m. - 10:30 p.m.

نامزدگی کی مدت

● 16 جولائی 2016 - 29

نامزدگی کے فارم

- نامزدگی کے فارم ضلعی دفاتر اور 10/F ، ہاربر سینٹر، 25 ہاربر روڈ، وان چائی میں اندراج اور انتخابی دفتر ("REO") پر دستیاب ہیں۔ یہ REO کی ویب سائٹ (www.reo.gov.hk) سے بھی ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔

ووٹنگ

- ہر رجسٹرڈ ووٹر جغرافیائی حلقہ ("GC") کیلئے ایک ووٹ اور باضابطہ حلقہ ("FC") کے لیے ایک ووٹ ڈال سکتا ہے۔
- ہر ووٹر یا بااختیار نمائندے ("AR") کو ایک مخصوص پولنگ اسٹیشن دیا جائے گا۔
- ووٹنگ سے تقریباً 10 دن پہلے متعلقہ ووٹروں یا ARs کو ایک پول کارڈ جاری کیا جائے گا جس پر مختص پولنگ اسٹیشن لکھا ہو گا۔
- تاہم ایک ووٹر یا AR کے لیے مختص پولنگ اسٹیشن، ویل چیئر استعمال کرنے والے یا چلنے پھرنے میں مشکل والے افراد کے لیے پول کارڈ سے منسلک نقشہ وقوع تک قابل رسائی ہے یا نہیں۔ چلنے پھرنے میں مشکل والے ووٹرز یا ARs جاننے پر کہ مختص پولنگ اسٹیشن قابل رسائی نہیں ہے۔ تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے REO کو ویل چیئر کی پہنچ میں مختص خاص پولنگ اسٹیشن کے لیے فیکس کے ذریعے (2891 1180) یا ایمیل کے ذریعے (reoenq@reo.gov.hk) یا ٹیلی فون کے ذریعے (1001 2891) سے پہلے درخواست دے سکتے ہیں۔
- اگر ووٹرز یا ARs کو ووٹ ڈالنے کی معلومات کے ترجمہ میں مدد کی ضرورت ہے تو، وہ نسلی اقلیتوں کے مرکز ("CHEER") کی مندرجہ ذیل ہاٹ لائن پر کال کر سکتے ہیں جو 22 اگست 2016 سے لاگو ہو گی۔

ہاٹ لائن نمبر۔	زبان
3755 6811	بھاسا انڈونیشیا
	تگا لوگ
	تھائی
3755 6822	ہندی
	نیپالی
3755 6833	اردو
	پنجابی

ووٹ کیسے ڈالیں؟

- اپنا بانگ کانگ شناختی کارڈ مختص پولنگ اسٹیشن میں لائیں اور پولنگ عملے کو دکھائیں
- آپ کے استحقاق کی بنیاد پر آپ کو بیلٹ پیپر (ز) اور ایک گتا "✓" (ٹک) والی مہر کے ساتھ دیا جائے گا۔ GC اور ضلعی کونسل (دوسرے) FC بیلٹ پیپرز پولنگ عملے کی جانب سے پہلے سے تہہ شدہ ہیں۔ ایک سیاہ قلم بھی چار خصوصی FCs (یعنی ہونگ بی گک FC، ایگریکلچر و فشریز FC، انشورنس FC اور ٹرانسپورٹ FC) کے ایک ووٹر یا AR کو دیا جائے گا۔
- ووٹنگ کے کمرے کے اندر بیلٹ پیپر (ز) پر نشان لگائیں۔
- تمام ووٹرز یا ARs (ماسوائے چار خاص FCs کے ووٹرز یا ARs کے لیے) اپنی پسند کے امیدوار کی فہرست یا امیدوار (وں) کے نام کے سامنے دیئے گئے دائرے میں (ٹک) "✓" لگانے کے لیے لازمی گتے سے منسلک مہر کا استعمال کرنا چاہیے۔
- چار خصوصی FCs کے ووٹروں یا ARs کے لیے، آپ کی پہلی ترجیح کے امیدوار کے نام کے سامنے دائرے میں ایک عربی بندسے "1" پر نشان لگانے کے لیے آپ کو دیئے گئے سیاہ قلم کا استعمال کریں اور اسی طرح دوسری ترجیح کے امیدوار کے نام کے سامنے ایک عربی بندسے "2" اور جاری رکھیں۔ آپ کو صرف ایک امیدوار کے لیے ایک پہلی ترجیح نشان زد کرنی چاہیے۔
- اگر آپ سے بیلٹ پیپر پر نشان لگانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا نادانستہ طور پر ایک بیلٹ پیپر کو خراب کر دیا ہے تو، آپ پریزائیڈنگ آفیسر کو بیلٹ پیپر واپس کر کے دوسرا دینے کو کہیں۔
- ایک بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے بعد :
- (a) ایک GC ووٹر پولنگ عملے کی طرف سے سابق تہہ کے مطابق بیلٹ پیپر کو ایک بار تہہ کرنا چاہیے تا کہ نیلے بیلٹ باکس میں ڈالنے سے پہلے (ٹک) "✓" کو چھپانے کے لیے نشان زدہ سائیڈ اندر کی جانب ہو؛
- (b) ایک ضلع کونسل (دوسرا) FC ووٹر کو اسی طرح بیلٹ پیپر کو ایک بار پھر تہہ کرنا چاہیے اور سفید بیلٹ باکس میں ڈال دیا جانا چاہیے؛ اور
- (c) دیگر FCs ایک ووٹر یا AR کو بیلٹ پیپر کو تہہ نہیں لگانی چاہیے۔ براہ مہربانی اس کا رخ نیچے کریں اور سرخ بیلٹ باکس میں ڈالیں۔

شفاف انتخابات

بدعنوانی کے خلاف خود مختار کمیشن کی طرف سے لاگو کیے جانے والے انتخابات (بدعنوان اور غیر قانونی طرز عمل) آرڈیننس (کیپ 554) کے مطابق، ایک ووٹر کو یہ نہیں کرنا چاہیے:

- انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کے لیے یا ایک مخصوص امیدوار کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے یا نہ ڈالنے کے لیے کسی شخص سے کوئی فائدہ (بشمول پیسہ، تحفہ، وغیرہ)، کھانا، مشروب یا تفریح قبول کرنا یا مانگنا؛
- کسی کے ووٹ ڈالنے کے فیصلہ کو متاثر کرنے کے لیے طاقت یا دباؤ کا استعمال کرنا یا دھمکی دینا؛
- انتخابات میں ووٹ ڈالنا یہ جانتے ہوئے کہ وہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حقدار نہیں ہیں؛ یا جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے ایک انتخابی افسر کو غلط یا گمراہ کن معلومات (مثال کے طور پر جھوٹا رہائشی پتہ) دینا۔